

غیر ملکوں کی اسکریننگ پر وزیر اعظم کے دفتر کا ضابطہ جو مملکت میں داخل ہوتے ہیں اور آبائی ملک میں واپس جانے سے قاصر ہیں، 2019

اس وقت، تھائی لینڈ میں داخل ہونے والے اور مقیم غیر ملکی ہیں، چاہے وہ امیگریشن قانون کے تحت قانونی طور پر ہوں یا غیر قانونی طور پر، جس کی وجہ سے تھائی لینڈ کو اجنبی انتظامی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے خاص طور پر ان لوگوں کے حوالے سے جو تھائی لینڈ آئے تھے اور اپنے آبائی ملک واپس نہیں جا پا رہے ہیں یہ یقین کرنے کے لیے ایک معقول بنیاد ہے کہ اگر مملکت سے واپس بھیجے گئے تو انہیں ظلم و ستم کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ مسئلہ امن عامہ، قومی سلامتی اور بین الاقوامی تعلقات کو متاثر کرتا ہے، اور تھائی لینڈ میں ایسے غیر ملکوں کی قانونی حیثیت سے متعلق سوال اٹھاتا ہے، نیز ان غیر ملکوں کی آبائی ملک میں واپسی یا تیسرے ملک میں سہولت فراہم کرنے سے متعلق مسائل، یہ مسائل بڑھتے اور بڑھتے جاتے ہیں۔ حکومت کی جانب سے مسائل کو حل کرنے کی مسلسل کوششوں کے باوجود، ان غیر ملکوں کی اسکریننگ کے طریقہ کار کی کمی کی وجہ سے اقدامات متوقع افادیت تک نہیں پہنچ سکے۔ لہذا، تھائی لینڈ کے اجنبی انتظام کے مسئلے کے پائیدار حل تک پہنچنے کے لیے تھائی معاشرے کی نوعیت اور بین الاقوامی حالات کے مطابق غیر ملکوں کے ایسے گروہوں کے لیے اسکریننگ کا طریقہ کار قائم کرنا ضروری ہے۔

سٹیٹ ایڈمنسٹریشن ایکٹ، 1991 کے سیکشن 11(8) کے مطابق، وزیر اعظم، کابینہ کی منظوری سے، اس طرح درج ذیل ضابطہ جاری کرتے ہیں۔

شق 1 اس ضابطے کو کہا جائے گا غیر ملکوں کی اسکریننگ کا وزیر اعظم کے دفتر کا ضابطہ جو مملکت میں داخل ہوتے ہیں اور آبائی ملک میں واپس جانے سے قاصر ہیں، 2019

شق 2 یہ ضابطہ اس کی اشاعت کی تاریخ سے 180 دنوں تک نافذ العمل ہوگا، رائل گزٹ۔

شق 3 اس کے بعد اس ضابطے میں، "اجنبی" کا مطلب ہے کوئی بھی ایسا شخص جو تھائی شہریت کا نہیں ہے، اور مملکت میں اسکا آباؤ اجداد نہیں ہے۔

"محفوظ شخص" سے مراد کوئی بھی اجنبی ہے جو مملکت میں داخل ہوتا یا اس میں رہتا ہے اور اپنے آبائی ملک میں واپس آنے سے قاصر ہے یا اس وجہ سے کہ وہ کمیٹی کے ذریعہ طے شدہ ظلم و ستم کے خطرے کا شکار ہو جائے گا۔ اس ضابطے کے تحت ایک محفوظ شخص کے طور پر درجہ دیا گیا ہے۔

"اسکریننگ کے تحت شخص" سے مراد کوئی بھی اجنبی ہے جو اس بات کا تعین کر چکا ہے کہ وہ محفوظ شخص بننے کی درخواست جمع کرانے کا اہل ہے، اور اس نے اس ضابطے کے تحت محفوظ شخص بننے کی درخواست جمع کرائی ہے۔

یہ ایک غیر سرکاری ترجمہ ہے۔ مبہم ترجمہ کی صورت میں، اصل تھائی متن غالب ہوگا۔

"کمیٹی" کا مطلب محفوظ افراد کی اسکریننگ کمیٹی ہے۔

"قابل اہلکار" کا مطلب امیگریشن قوانین کے تحت کوئی بھی قابل اہلکار ہے۔

شق 4 وزیر اعظم اس ضابطے کی ذمہ داری سنبھالیں گے۔

باب 1

محفوظ شخص اسکریننگ کمیٹی

شق 5 ایک کمیٹی ہوگی جسے "محفوظ شخص کی اسکریننگ کمیٹی" بلایا جائے گا۔ جس پر مشتمل ہوگا:

- (1) رائل تھائی پولیس کا کمشنر جنرل یا ڈپٹی کمشنر جنرل جیسا کہ کمشنر جنرل نے بطور چیئر پرسن مقرر کیا ہے۔
- (2) وزارت داخلہ کے نائب مستقل سیکرٹری کو بطور نائب چیئر پرسن وزارت داخلہ کے مستقل سیکرٹری نے مقرر کیا ہے۔

(3) وزارت خارجہ، وزارت سماجی ترقی اور انسانی سلامتی، وزارت داخلہ، وزارت انصاف، وزارت محنت، قومی انتیلی جنس ایجنسی، دفتر برائے قومی سلامتی کایکسل، دفتر اٹارنی جنرل، اور کمشنر آف دی کمشنر کے مندوبین کمیٹی کے ارکان کے طور پر خصوصی برانچ بیورو؛

(4) ماہرین، چار افراد سے زیادہ نہیں، جنہیں رائل تھائی پولیس کے کمشنر جنرل نے انسانی حقوق یا کمیٹی کے فرائض اور حکام سے متعلقہ دیگر شعبوں میں اپنی مہارت اور تجربے سے مقرر کیا ہے، جو کسی بھی عہدے کے ساتھ سول ورکر نہیں ہوں گے۔ یا تنخواہ، ایک اہلکار یا سول سروس کا ملازم، سرکاری حکام، ریاستی اداروں، یا مقامی انتظامی تنظیموں، پبلک یا ایکورسٹیوں میں لیکچراروں کی رعایت کے ساتھ، کمیٹی کے ممبر کے طور پر۔

امیگریشن بیورو کا کمشنر کمیٹی کا ممبر اور سیکرٹری ہوگا۔ کمیٹی وزارت داخلہ، دفتر برائے قومی سلامتی کایکسل، رائل تھائی پولیس، یا سرکاری ایجنسیوں سے دو سے زیادہ سول ورکرز کو اسسٹنٹ سیکرٹری مقرر نہیں کرے گی۔

شق 6 کمیٹی کے ماہر ارکان مندرجہ ذیل قابلیت کے حامل ہوں گے اور مندرجہ ذیل عدم مطابقت نہیں ہے:

- (1) تھائی قومیت کا ہایکا؛
- (2) دیوالیہ شخص نہ ہایکا؛
- (3) نااہل شخص یا نیم نااہل شخص نہ ہایکا؛
- (4) غفلت یا بدانتظامی سے متعلق سزا کے استثناء کے ساتھ، حتمی فیصلے کے ذریعے قید کی سزا نہ دی جائے۔

یہ ایک غیر سرکاری ترجمہ ہے۔ مبہم ترجمہ کی صورت میں، اصل تھائی متن غالب ہوگا۔

شق 7 کمیٹی کے ماہر ممبران تاریخ سے تین سال کی مدت پوری کریں گے۔ تقرری کی اور دوبارہ تقرری کی جا سکتی ہے لیکن لگاتار دو میعاد سے زیادہ نہیں۔

اگر ماہر ممبر کا عہدہ مقررہ مدت سے پہلے خالی ہو جاتا ہے یا موجودہ ماہر ممبروں کی مدت کے دوران ماہر ممبر کی اضافی تقرری کی صورت میں، نو مقرر کردہ ممبر خالی اسامی کی جگہ لے گا یا بقیہ مدت کے لیے اضافی ماہر ممبر بن جائے گا پہلے سے مقرر کردہ ماہر اراکین میں سے۔

اگر ماہر ممبر کا عہدہ مقررہ مدت سے پہلے خالی ہو جاتا ہے تو کمیٹی باقی ممبران کے ساتھ اس وقت تک اپنے کام جاری رکھے گی جب تک کہ ماہر ممبران کی مزید تقرری مکمل نہیں ہو جاتی۔

پہلے تحریری حصے کے تحت مدت پوری ہائیکے پر، اگر بعد میں آنے والے ماہر اراکین کا تقرر ہائیکا باقی ہے، تو سبکدوش ہائیکے والے ماہر اراکین جن کی مدت ختم ہو چکی ہے، اس وقت تک اپنی ڈیوٹی پر رہیں گے جب تک کہ جانشین عہدہ سنبھال نہ لیں۔

شق 8 مدت کی تکمیل کے علاوہ، ماہر کی رکنیت ختم ہو جائے گی:

(1) موت

(2) استعفی

(3) نااہل قرار دیا جانا یا شق 6 میں بیان کردہ غیر موافق ہائیکا؛

(4) اگر کمیٹی کمیٹی کے کل اراکین کے دو تہائی سے کم ووٹوں کے ساتھ، عہدے سے ہٹانے کا تعین کرتی ہے۔

شق 9 کمیٹی کے درج ذیل فرائض اور حکام ہوں گے:

(1) اس ضابطے کے تحت محفوظ شخص کی حیثیت کا تعین کرنے کے لیے معیارات کا تعین کریں اور غیر ملکیوں کی اسکریننگ کا انعقاد کریں، اور متعلقہ قوانین کے مطابق کارروائی کیے جانے والے مسئلے کا حوالہ دیں، بشمول ایک محفوظ شخص ہائیکے کے لیے مسترد کردہ درخواستوں کے لیے اپیل کا تعین۔

(2) متعلقہ غیر ملکی حکومتوں، بین الاقوامی تنظیموں اور نجی شعبوں کے ساتھ تحفظ یافتہ افراد کی انتظامیہ کے حوالے سے تعالیک اور ہم آہنگی کو فروغ دینا، بین الاقوامی ذمہ داریوں اور پالیسیوں کے مطابق جو کابینہ کی قراردادوں کے ذریعے اختیار کیا گیا ہے۔

(3) اس ریگولیشن کو نافذ کرنے کی صورت حال، مسائل اور رکاوٹوں کی اطلاع دیں، اور وزیر اعظم کو مسائل کے حل، بہتری اور روک تھام کے لیے رہنما اصولوں کی سفارشات پیش کریں۔

(4) دیگر فرائض انجام دیں جیسا کہ اس ضابطے میں نامزد کیا گیا ہے، یا جیسا کہ کابینہ یا وزیر اعظم نے تفویض کیا ہے۔

یہ ایک غیر سرکاری ترجمہ ہے۔ مبہم ترجمہ کی صورت میں، اصل تھائی متن غالب ہوگا۔

شق 10 کمیٹی کے فرائض کی انجام دہی میں، سیکرٹری کمیٹی کے فرائض اور اختیارات کے تحت مسائل کو چیئرپرسن کو تجویز کرے گا، چیئرپرسن کو کمیٹی کے فرائض اور حکام۔ چیئرپرسن کمیٹی کی طرف سے متعین کردہ معیارات کے مطابق اپنی فوری ضرورت کے مطابق اجلاس بلائے گا۔

اجلاس کا کورم اجلاس میں موجود کمیٹی کے ارکان کی نصف سے کم پر مشتمل نہیں ہوگا۔

کمیٹی کے اجلاس میں اگر چیئرپرسن غیر حاضر ہو یا ڈیوٹی انجام دینے سے قاصر ہو تو نائب چیئرپرسن اجلاس کی صدارت کرے گا۔ اگر نائب چیئرپرسن غیر حاضر ہے یا ڈیوٹی انجام دینے سے قاصر ہے تو اجلاس میں موجود کمیٹی ممبران ایک رکن کو بطور چیئرمین مقرر کریں گے۔ وقتی چیئرپرسن۔

اجلاس کا فیصلہ اکثریتی ووٹ سے کیا جائے گا، ہر رکن کے پاس ایک ووٹ ہوگا۔ ووٹ برابر ہائیکے کی صورت میں، اجلاس کا چیئرپرسن فیصلہ ووٹ ڈالے گا۔

شق 11 کمیٹی کام کرنے کے لیے ذیلی کمیٹی کا تقرر کر سکتی ہے، کمیٹی کی طرف سے تفویض کردہ کوئی بھی کارروائی۔
ذیلی کمیٹی کا اجلاس شق 10 کا اطلاق کرے گا۔

شق 12 اس ضابطے کے تحت فرائض کی انجام دہی میں، کمیٹی اور ذیلی کمیٹی سول سروس کے حکام، ریاستی اداروں، دیگر سرکاری اداروں، اور سرکاری حکام سے اس پر غور کرنے کے لیے کوئی متعلقہ معلومات یا دستاویزات فراہم کرنے کی درخواست کر سکتے ہیں، یا کسی بھی شخص کو حقائق پر مبنی معلومات، رائے، علمی مشورہ، یا دستاویزات یا ثبوت فراہم کرنے کے لیے مدعو کر سکتے ہیں۔ مناسب کے طور پر اس کے غور کی حمایت کریں۔

شق 13 میٹنگ میں حاضری کے اخراجات یا کارکردگی سے متعلق دیگر اخراجات کمیٹی اور ذیلی کمیٹی (زبانیں) کمیٹی ممبر میٹنگ الاؤنس یا حکومتی ضابطوں کے بارے میں شاہی فرمان کے مطابق ہوں گی۔ اس طرح کے اخراجات رائل تھائی پولیس کے بجٹ سے ادا کیے جائیں گے۔

شق 14 رائل تھائی پولیس کے تحت امیگریشن بیورو کا سیکرٹریٹ ہوگا۔

کمیٹی اور اس کے درج ذیل فرائض اور حکام ہوں گے:

(1) کمیٹی اور ذیلی کمیٹیوں کے انتظامی اور تعلیمی معاملات کے لیے ذمہ دار ہوں؛

(2) اس ضابطے کے تحت آپریشن کی حمایت کے لیے غیر ملکی حکومتوں، بین الاقوامی تنظیموں، نجی شعبوں اور دیگر متعلقہ ایجنسیوں کے ساتھ رابطہ قائم کریں۔

(3) اس ضابطے کو لاگو کرنے میں بہتری، مسائل اور رکاوٹوں سے متعلق معلومات کو مرتب کرنا، مطالعہ کرنا، تحقیق کرنا اور ان کا تجزیہ کرنا، نیز کمیٹی کو مسائل کے حل اور روک تھام کے لیے سفارشات تیار کرنا اور تجویز کرنا؛

(4) کمیٹی اور ذیلی کمیٹی (زبانیں) کی طرف سے تفویض کردہ دیگر فرائض انجام دیں۔

یہ ایک غیر سرکاری ترجمہ ہے۔ مبہم ترجمہ کی صورت میں، اصل تھائی متن غالب ہوگا۔

باب 2

محفوظ افراد کی اسکریننگ

شق 15 امیگریشن قوانین یا اس ضابطے کو نافذ کرنے کے دوران، اگر مجاز اہلکار یا سرکاری اہلکار کو ایک ایسے اجنبی کا پتہ چلتا ہے جس کا دعویٰ ہے کہ اس کے پاس محفوظ شخص ہائیکے کی معقول بنیاد ہے، ایسے اجنبی کی وطن واپسی کو موخر کر دیا جائے گا، سوائے اس کے کہ جہاں قومی سلامتی کو خطرہ ہو۔

شق 16 وہ اجنبی جو دعویٰ کرتا ہے کہ محفوظ شخص ہائیکے کے لیے کوئی معقول بنیاد موجود ہے۔ محفوظ شخص بننے کی درخواست قابل اہلکار کو جمع کروائیں۔ جمع کروانا کمیٹی کے تجویز کردہ فارم کی تعمیل کرنا ہے۔

شق 17 قابل اہلکار تیس دن کے اندر ایک محفوظ شخص بننے کی درخواست کا تعین کرے گا۔ درخواست موصول ہائیکے کی تاریخ کے بعد۔

اگر یہ طے کیا جاتا ہے کہ اجنبی اس ضابطے کے تحت محفوظ شخص ہائیکے کی درخواست دائر کرنے کے لیے نااہل ہے، تو درخواست کو مسترد کر دیا جائے گا، اور اجنبی کو تعین کے نتیجے کے بارے میں مطلع کیا جائے گا۔ اجنبی نتیجہ کی اطلاع کی تاریخ کے بعد پندرہ دنوں کے اندر کمیٹی کو تعین کے نتیجے کی اپیل کر سکتا ہے۔ اگر مذکورہ مدت میں اپیل جمع کرائے بغیر اپیل کی مدت ختم ہو جاتی ہے، تو غیر ملکی کے خلاف امیگریشن اور دیگر متعلقہ قوانین کے مطابق قوانینی کارروائی کی جائے گی۔

پیراگراف ایک میں اپیل جمع کرانے اور اپیل کے تعین پر کمیٹی کے نسخے کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ کمیٹی ایک یا زیادہ اپیل ذیلی کمیٹی کا تقرر کر سکتی ہے، جو کم از کم تین اراکین پر مشتمل ہو گی، جو اہل ہوں اور جو شق 6 میں متعین عدم مطابقت کے حامل نہ ہوں، کمیٹی کی جانب سے اپیل کا تعین کر سکیں۔

کمیٹی یا اپیل ذیلی کمیٹی کی طرف سے اپیل کے تعین کا نتیجہ حتمی ہے۔ اگر یہ طے کیا جاتا ہے کہ اپیل کنندہ محفوظ شخص ہائیکے کی درخواست جمع کرانے کا اہل ہے، تو شق 18 کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔

شق 18 اگر مجاز اہلکار اس بات کا تعین کرتا ہے کہ ایک اجنبی ہائیکے کی درخواست جمع کرانے کا اہل ہے۔ محفوظ شخص، ایلین کو مطلع کیا جائے گا کہ وہ کمیٹی کو محفوظ شخص کی حیثیت کے لیے درخواست جمع کرائے۔ جمع کروانا کمیٹی کے تجویز کردہ فارم کی تعمیل کرنا ہے۔

اگر پہلے پیراگراف میں موجود اجنبی اپنی اہلیت کے اطلاع کی تاریخ کے بعد ساٹھ دنوں کے اندر کمیٹی کو محفوظ شخص کی حیثیت کے لیے درخواست جمع کرانے میں ناکام رہتا ہے، تو یہ سمجھا جائے گا کہ اجنبی نے درخواست ترک کر دی ہے، اور مجاز اہلکار قوانینی کارروائی کرے گا۔ امیگریشن اور دیگر متعلقہ قوانین کے مطابق اجنبی کے خلاف کارروائی۔

شق 19 جب کوئی اجنبی محفوظ شخص کی حیثیت کے لیے کمیٹی کو درخواست جمع کراتا ہے، مجاز اہلکار ایک دستاویز جاری کرے گا جس میں اسکریننگ کے تحت ایک شخص کے طور پر اجنبی کی حیثیت کی نشاندہی کی جائے گی، تصویر اور فنگر پرنٹس لیں گے، اور دیگر معلومات اکٹھی کریں گے جو کہ ایک محفوظ شخص ہائیکے کے عزم کے مقصد کے لیے متعلقہ اور مناسب ہو سکتی ہے۔ اس طرح کی معلومات کو ایلین کے کیس فائل میں ریکارڈ کیا جائے گا اور درج کیا جائے گا، کمیٹی کے مقرر کردہ معیار، طریقہ کار اور فارم کے مطابق۔

یہ ایک غیر سرکاری ترجمہ ہے۔ مبہم ترجمہ کی صورت میں، اصل تھائی متن غالب ہوگا۔

امیگریشن قوانین کے تحت، مجاز اہلکار اسکریننگ کے تحت کسی شخص کو مناسب جگہ پر رہنے کی اجازت دے سکتا ہے، بشرطیکہ یہ ضمانت دی جائے کہ وہ مقررہ تاریخ، وقت اور مقام پر ہدایات کو تسلیم کرنے کے لیے مجاز اہلکار کو رپورٹ کرے گا۔ اس ضابطے کے تحت محفوظ شخص کی حیثیت کا تعین۔

شق 20 کمیٹی اس کے مطابق ایک محفوظ شخص پائیکے کی درخواست کا تعین کرے گی؛ خاندانی اتحاد کے اصولوں، درخواست کے تعین میں مدد حاصل کرنے کے حق، بین الاقوامی ذمہ داریوں، اور کابینہ کی قراردادوں کے ذریعے اختیار کی گئی پالیسیوں کو مدنظر رکھتے ہوئے کابینہ کی منظوری سے کمیٹی کی طرف سے مقرر کردہ معیار، طریقہ کار اور شرائط

پیراگراف ایک کے تحت طے شدہ فیصلہ میں، کمیٹی مندرجہ ذیل فیصلوں میں سے کسی ایک تک پہنچ سکتی ہے:

(1) محفوظ شخص کا درجہ دینے سے انکار کرنا، اور اسکریننگ کے تحت فرد کو تعین کے نتیجے کو مطلع کرنا اور امیگریشن اور دیگر متعلقہ قوانین کے مطابق اسکریننگ کے تحت شخص پر قوانین کی کارروائی کرنے کے لیے معاملے کو مجاز اہلکار کے پاس بھیجنا؛

(2) اسکریننگ کے تحت شخص کو تحفظ یافتہ شخص کا درجہ دینے کے لیے، یہ نوٹ کرتے ہوئے کہ کمیٹی مزید شرائط عائد کر سکتی ہے، اور مجاز اہلکار کمیٹی کی طرف سے تجویز کردہ فارم کے مطابق اسکریننگ کے تحت شخص کو تحفظ یافتہ شخص کے طور پر حیثیت کی نشاندہی کرنے والی دستاویز جاری کرے گا۔

پیراگراف دو کے تحت کمیٹی کا فیصلہ حتمی ہے۔

شق 21 کمیٹی اسکریننگ یا تحفظ یافتہ شخص کی حیثیت کو منسوخ کر سکتی ہے۔ وہ شخص جو کمیٹی کی تجویز کردہ شرائط کی خلاف ورزی کرتا ہے، یا اس ضابطے کی تعمیل کرنے میں ناکام رہتا ہے، یا اس ضابطے کو نافذ کرنے میں کمیٹی، ذیلی کمیٹی یا مجاز اہلکار کے ساتھ تعالیک کرنے سے انکار کرتا ہے، اور مسئلہ کو مجاز کو بھیجتا ہے۔ امیگریشن اور دیگر متعلقہ قوانین کے مطابق غیر ملکی کے خلاف قوانین کی کارروائی کرنے کا اہلکار۔

پیراگراف ایک کے تحت کمیٹی کی جانب سے سٹیٹس کو منسوخ کرنے کی قرارداد حتمی ہے۔

شق 22 اس ضابطے کے تحت ایک محفوظ شخص بننے کے لیے درخواست کا تعین کرنے میں کمیٹی حقائق کی چھان بین اور جانچ کے لیے ایک یا زیادہ ذیلی کمیٹی کا تقرر، جو کم از کم تین ممبران پر مشتمل ہوگی جو کمیٹی کے فرانس اور حکام سے متعلق علم اور مہارت رکھتے ہوں؛ جو اہل بھی ہوں اور شق 6 میں متعین کردہ غیر موافق بھی نہ ہوں۔ محفوظ شخص کی حیثیت کے لیے درخواست کی مکملیت اور ساکھ سے متعلق سفارشات کا جائزہ لیں اور فراہم کریں، بشمول اسکریننگ کے تحت فرد کو محفوظ شخص کا درجہ دیا جانا چاہیے یا نہیں، کمیٹی کو درخواست کی اسکریننگ پر غور کرنے میں مدد کرنے کے لیے محفوظ شخص کی حیثیت کی سفارشات فراہم کریں۔

شق 23 محفوظ شخص کی اسکریننگ کی کارروائی میں، کمیٹی، امیگریشن بیورو اور قابل اہلکار متعلقہ غیر ملکی حکومتوں، بین الاقوامی تنظیموں، یا نجی شعبوں کے ساتھ تعالیک کر سکتے ہیں تاکہ اس کے آپریشن میں مدد مل سکے۔

یہ ایک غیر سرکاری ترجمہ ہے۔ مبہم ترجمہ کی صورت میں، اصل تھائی متن غالب ہوگا۔

شق 24 اگر کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک اجنبی گزارش جمع کرنے کے لئے نااہل ہے محفوظ شخص بننے کے لیے، یا کمیٹی نے محفوظ شخص کا درجہ دینے سے انکار کرنے کا فیصلہ کیا، یا کمیٹی نے اسکریننگ یا محفوظ شخص کے تحت فرد کی حیثیت کو منسوخ کرنے کا عزم کیا، اجنبی ایک اور درخواست دوبارہ جمع کر سکتا ہے محفوظ شخص کی حیثیت پر نظر ثانی کے لیے، اگر کمیٹی کی طرف سے تجویز کردہ معلومات یا حقائق موجود ہوں تو۔

باب 3

تحفظ یافتہ افراد کی انتظامیہ

شق 25 جب کسی اجنبی کو اس ضابطے کے تحت محفوظ شخص کا درجہ دیا جاتا ہے تو متعلقہ ایجنسیاں محفوظ شخص پر درج ذیل کارروائیاں کریں گی:

(1) محفوظ شخص کو آبائی ملک واپس بھیجنے سے گریز، سوائے اس کے کہ جہاں محفوظ شخص رضاکارانہ طور پر مملکت چھوڑنا چاہتا ہو یا جہاں قومی سلامتی کو خطرہ ہو؛

(2) مدد فراہم کریں آبائی ملک میں رضاکارانہ واپسی ایسی صورت حال میں جب واپسی کی وجہ نہ موجود ہو یا محفوظ شخص کی حمایت کرنے کا فیصلہ جب مطلوبہ ملک میں رہائش کے قابل سمجھا جائے؛

(3) محفوظ شخص کو خصوصی حالات میں مملکت میں رہنے کی اجازت دیں یا عارضی طور پر مملکت میں رہنے کی اجازت دیں، اور امیگریشن قانون کے مطابق اس معاملے کو مزید کارروائی کے لیے بھیجیں، بشرطیکہ کہ اس ضابطے کے تحت اسکریننگ کے نتائج کو مدنظر رکھا جائے؛

(4) متعلقہ قوانین، بین الاقوامی ذمہ داریوں، کابینہ کی قراردادوں اور حکومتی پالیسیوں کے مطابق محفوظ شخص کے درجے کے تحت بچوں کو تعلیم اور صحت کی دیکھ بھال فراہم کرنے کے لیے مناسب ہم آہنگی پیدا کریں۔

شق 26 وزارت خارجہ غیر ملکی حکومتوں کے ساتھ رابطہ کرے گی یا بین الاقوامی تنظیمیں تحفظ یافتہ افراد کی انتظامیہ کے بارے میں معلومات مرتب کریں جیسا کہ کمیٹی کو درکار ہو، اور کمیٹی کو ایسی معلومات سے مطلع کریں تاکہ تحفظ یافتہ افراد کی انتظامیہ پر غور کرنے میں مدد ملے۔

شق 27 اگر وزارت خارجہ، وزارت داخلہ، دفتر قومی سلامتی کونسل یا رائل تھائی پولیس یہ سمجھتی ہے کہ وہ صورت حال جس کی وجہ سے آبائی ملک واپس جانے میں ناکامی ہوئی ہے، یا کسی خاص محفوظ شخص یا محفوظ شخص کے گروپ کو تیسرے ملک بھیجنے کے لیے مناسب سمجھے، وہ امیگریشن بیورو کے ساتھ ہم آہنگی کرے گی، بین الاقوامی ذمہ داریوں اور متعلقہ کابینہ کی قراردادوں کی پالیسیوں کے مطابق، کمیٹی کو آبائی ملک یا کسی تیسرے ملک میں واپسی پر غور کرنے کے لیے، یا تجویز دینا ایسے محفوظ شخص یا محفوظ شخص کے گروپ کے خلاف کوئی کارروائی کرنے۔

یہ ایک غیر سرکاری ترجمہ ہے۔ مبہم ترجمہ کی صورت میں، اصل تھائی متن غالب ہوگا۔

شق 28 مملکت سے ایسے محفوظ شخص کی وطن واپسی امیگریشن قانون کے مطابق کی جائے گی۔ جب مجاز اہلکار نے پیراگراف ایک کے تحت محفوظ شخص کو مملکت سے باہر بھیج دیا تو ایسے شخص کی اس ضابطے کے تحت تحفظ یافتہ شخص کی حیثیت ختم ہو جائے گی۔

باب 4

تشخیص اور جائزہ

شق 29 کمیٹی اس ضابطے کے نفاذ کا جائزہ لے گی اور اس کا جائزہ لے گی؛ بشمول مسائل، رکاوٹیں، نیز مجوزہ حل، اور سالانہ غور کے لیے وزیر اعظم کو رپورٹ کرنا۔

باب 5

عارضی فراہمی

شق 30 محفوظ شخص کی حیثیت کا تعین کرنے میں جو اجنبی مملکت میں داخل ہوا اور آبائی ملک واپس نہیں جا سکتا اس ضابطے کے لاگو ہائیکے سے پہلے، اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے مہاجرین کے دفتر کے سابقہ تعین کو مدنظر رکھتے ہوئے، اس ضابطے کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔

24 دسمبر 2019 کو اعلان کیا گیا۔

جنرل پراپوت چان اوچا
وزیر اعظم